



# SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

## **PRESS RELEASE**

For immediate release

March 11, 2026

### **Finance Minister Directs SECP to Strengthen Capital Market Outreach, Chairs CMDC Meeting**

**ISLAMABAD, March 11:** Federal Minister for Finance and Revenue Senator Muhammad Aurangzeb on Wednesday chaired a meeting of the Capital Market Development Council (CMDC) and directed the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) to strengthen outreach on capital market reforms to improve awareness among corporates and investors.

The meeting reviewed progress on capital market reforms with discussions focusing on the development of the corporate bond market, improving secondary market liquidity, simplifying issuance procedures, strengthening market infrastructure, and reviewing the tax framework affecting capital market participants. Chairman SECP, Dr Kabir Sidhu along with representatives of the Pakistan Stock Exchange, State Bank of Pakistan, Central Depository Company, National Clearing Company of Pakistan Limited, Pakistan Banks Association and Pakistan Business Council, attended the meeting.

The finance minister emphasized that Pakistan needs to gradually move towards a more balanced financial system where capital markets complement the banking sector in meeting the financing needs of the economy. He noted that the development of a vibrant corporate bond market would play an important role in mobilizing long-term domestic savings and supporting private sector investment.

Aurangzeb stressed the need for practical and time-bound reforms to address bottlenecks across the capital market value chain, including issuance processes, regulatory procedures, market infrastructure and secondary market liquidity. He said reforms should focus on creating an enabling environment where companies can efficiently raise funds through market-based instruments while investors benefit from greater transparency, liquidity and confidence.

During the meeting, the finance minister highlighted the importance of strengthening communication regarding recent regulatory reforms introduced to facilitate corporate bond issuance and improve market access. He directed the SECP to enhance outreach efforts so that corporates, financial institutions and other market participants are fully informed about the simplified regulatory framework, reduced documentation requirements and other facilitation measures introduced in recent months.

The meeting also discussed the need to draw lessons from international and regional experiences in capital market development. The finance minister asked relevant institutions to review best practices in neighbouring markets that could be adapted to Pakistan's context.

Participants also highlighted structural challenges affecting the growth of the corporate bond market, including delays in approvals, coordination gaps among market participants and limited awareness among potential issuers. The discussion also focused on improving secondary market liquidity for corporate debt instruments, with participants noting that the absence of effective market-making arrangements currently limits trading activity and price discovery.

Representatives of the Pakistan Stock Exchange, SECP, State Bank of Pakistan, Central Depository Company, National Clearing Company of Pakistan Limited, Pakistan Banks Association and Pakistan Business Council briefed the meeting on recent initiatives undertaken to facilitate corporate bond issuance and improve market functioning.

Participants noted that several regulatory reforms have already been implemented, including simplified prospectus requirements, streamlined documentation procedures, reduced regulatory fees and the digitization of the issuance process to improve efficiency and transparency.

The meeting also reviewed the broader reform agenda under the Capital Market Development Council aimed at strengthening coordination among regulators, market infrastructure institutions and the private sector. In this regard, the council plans to operationalize specialized working groups comprising representatives from regulators, financial institutions and industry stakeholders to focus on key reform areas including tax and fiscal policy, debt issuance frameworks, market infrastructure development and investor protection.

The finance minister reiterated the government's commitment to developing a deeper and more efficient capital market as a key pillar for mobilizing investment, strengthening financial stability and supporting private sector-led economic growth.

## وزیر خزانہ کی سی ایم ڈی سی اجلاس کی صدارت، ایس ای سی پی کو کیپٹل مارکیٹ آؤٹ ریچ بڑھانے کی ہدایت

اسلام آباد، 11 مارچ: وفاقی وزیر خزانہ و محصولات سینیٹر محمد اورنگزیب نے بدھ کے روز کیپٹل مارکیٹ ڈویلپمنٹ کونسل (CMDC) کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کو ہدایت کی کہ کیپٹل مارکیٹ اصلاحات کے حوالے سے آگاہی بڑھانے کے لیے آؤٹ ریچ سرگرمیوں کو مزید موثر بنایا جائے۔

اجلاس میں کیپٹل مارکیٹ اصلاحات پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اس دوران کارپوریٹ بانڈ مارکیٹ کے فروغ، ثانوی مارکیٹ میں لیکویڈیٹی بہتر بنانے، بانڈ اجرا کے طریقہ کار کو آسان بنانے، مارکیٹ انفراسٹرکچر کو مضبوط کرنے اور ٹیکس فریم ورک کا جائزہ لینے جیسے امور زیر بحث آئے۔ اجلاس میں چیئرمین ایس ای سی پی کے علاوہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی، نیشنل کلیئرنگ کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، پاکستان بینکنگ ایسوسی ایشن اور پاکستان بزنس کونسل کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔

وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان کو بتدریج ایسے متوازن مالیاتی نظام کی طرف بڑھنا ہوگا جہاں کیپٹل مارکیٹ بینکاری نظام کے ساتھ مل کر معیشت کی مالی ضروریات پوری کرے۔ انہوں نے کہا کہ مضبوط کارپوریٹ بانڈ مارکیٹ طویل مدتی مقامی بچتوں کو متحرک کرنے اور نجی شعبے کی سرمایہ کاری کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرے گی۔

انہوں نے کہا کہ کیپٹل مارکیٹ کے پورے نظام میں موجود رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے عملی اور بروقت اصلاحات ضروری ہیں، جن میں اجرا کے طریقہ کار، ریگولیٹری عمل، مارکیٹ انفراسٹرکچر اور ثانوی مارکیٹ میں لیکویڈیٹی شامل ہیں۔

وزیر خزانہ نے حالیہ ریگولیٹری اصلاحات کے بارے میں موثر آگاہی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے ایس ای سی پی کو ہدایت کی کہ کارپوریٹس، مالیاتی اداروں اور دیگر مارکیٹ شرکاء کو آسان ریگولیٹری فریم ورک، کم دستاویزی تقاضوں اور دیگر سہولتی اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔

اجلاس میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ کارپوریٹ قرضہ جاتی سکیورٹیز کی ثانوی مارکیٹ میں لیکویڈیٹی بڑھانے کے لیے مارکیٹ میکنگ کے موثر نظام کی ضرورت ہے، جبکہ بینکوں اور بروکر تاج ہاؤسز کی زیادہ شرکت سے مارکیٹ میں سرگرمی اور سرمایہ کاروں کی شمولیت بڑھ سکتی ہے۔

اجلاس میں کیپٹل مارکیٹ ڈویلپمنٹ کونسل کے وسیع اصلاحاتی ایجنڈے کا بھی جائزہ لیا گیا، جس کا مقصد ریگولیٹرز، مارکیٹ اداروں اور نجی شعبے کے درمیان بہتر ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف اصلاحاتی شعبوں پر کام تیز کرنے کے لیے خصوصی ورکنگ گروپس قائم کیے جائیں گے۔